

اجازت لی جائے۔

إِنْعَاضٌ: دشمن بنانا۔ دشمن سمجھنا۔

إِنْقَاءٌ: باقی رکھنا۔ محفوظ رکھنا۔ رحم کرنا۔ شفقت کرنا۔

إِنْكَارٌ: صبح سویرے۔ سورج نکلنے سے پہلے۔

إِبْلِيسُ: حیران۔ تمحیر۔ اللہ کی رحمت سے ناامید۔ شیطان۔ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَبْلِسُ بِهِ
إِبْلِيسٌ وَجُنُودُهُ۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان اور اس کے لشکروں کے پریشان کرنے

سے۔

إِبْلَاحٌ: عاجز کرنا۔ تھکانا۔

إِبْلَاسٌ: خیر کم ہونا۔ بھلائی کم ہونا۔ ٹوٹ جانا۔ حیران ہونا۔ غمگین ہونا۔ ناامید ہونا۔

إِبْلَاعٌ: نگلوانا۔

إِبْلَاءٌ: آزمانا۔ مصیبت میں ڈالنا۔ قسم دینا۔ پرانا کرنا۔ ظاہر کرنا۔ نعمت دینا، احسان کرنا، فَمَشَى

فَيَصِيرُ إِلَىٰ إِبْلَاءِ لَمَّا أَبْلَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ جب اللہ نے قیصر پر احسان کیا (فتح دی) تو

وہ بیت المقدس کی طرف گیا۔ مَنْ أَبْلَىٰ فَلَذَكَرَ فَقَدْ شَكَرَ۔ جس کو کوئی نعمت ملی اور وہ اللہ

کو یاد کرے تو اس نے شکر کر لیا۔

إِبْنَةٌ: بیٹی۔ دختر۔ جَمْعُ بَنَاتٍ۔ مَحْنَتُ الْعَبِّ بِالْبَنَاتِ۔ (حضرت عائشہؓ جہتی ہیں) میں گزریوں سے

کھیلا کرتی تھی۔

إِبْنٌ: بیٹا۔ جَمْعُ أَبْنَاءَ وَبَنُونَ۔ بَنِي حُدَيْفَةَ سَالِمًا۔ حذیفہ نے سالم کو بیٹا بنا لیا۔ إِبْنُ آدَمَ بَنِيَانٌ

اللہ۔ آدمی اللہ کی عمارت ہے۔

إِبْهَاجٌ: خوش نما ہونا۔

إِبْهَارٌ: دن یا رات کا آدھا ہونا۔ رات کا لمبا ہونا۔ إِنَّهُ سَارَ حَتَّىٰ اِبْهَارَ اللَّيْلِ۔ وہ چلے یہاں

تک کہ آدمی رات ہو گئی۔

إِبْهَاءٌ: خالی کرنا۔ ویران کرنا۔

إِتِّخَاذٌ: لینا۔ پانا۔ حاصل کرنا۔

إِتَّبَعَ: پیچھے چلنا۔ کھوج لگانا۔ پیروی کرنا۔ اِتَّقَا كَرْنَا۔ عمل کرنا۔

إِخَاوَةٌ: بھائی بنانا۔ بھائی چارہ قائم کرنا۔

إِحَاءٌ: بھائی بنانا۔ رشتہ اخوت قائم کرنا۔ بھائی چارہ قائم کرنا۔ دو چیزوں کو ملانا۔

إِحْوَانٌ: بھائی۔ واحد اُنْ۔

إِحْوَةٌ: بھائی۔ واحد اُنْ۔

إِذَا: اگر۔ جب۔ ظرف برائے زمانہ مستقبل۔

إِذَنْ، ذَنْ، إِذَا: تب۔ تب تو۔ ایسا ہے تو۔ سابقہ کلام کا جواب اور جزا۔ فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتا ہے۔

إِذٌ: جب۔ جب کہ۔ جس وقت۔ جملہ فعلیہ یا اسمیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ إِذِيقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تو غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

إِذْ ذَاكَ: اس وقت۔

إِذْمًا: جب۔ اگر۔ حرف شرط و جزاء۔

إِذْنٌ: شرعی پابندی کا خاتمہ۔ اجازت۔ اباحت۔

إِسْتَبْضَاعٌ: پوچھی بنانا۔

إِسْتِبْطَاءٌ: کسی کو دیر کیا ہوا پانا۔

إِسْتَبْشَعٌ: برا سمجھنا۔ بد مزہ پانا۔

إِسْتَبْصُرٌ: دیکھنا۔ غور سے دیکھنا۔ ظاہر و واضح ہونا۔

إِسْتَبْطَحٌ: جگہ کا کشادہ ہونا۔ پھیلتا۔

إِسْتَبْطَنٌ: وادی وغیرہ میں آنا۔ معاملے کی تہ کو پہنچنا۔ بات کو دل میں چھپانا۔

إِسْتَبْعَلٌ: شادی کرنا۔

إِسْتَبْقَاہُ: باقی رکھنے کی خواہش کرنا۔ محفوظ کرنا۔ کسی سے درگزر کرنا۔

إِنْبِزَالٌ: پھینکا۔ شراب کا بہنا۔

إِنْبِسَاطٌ: پھیلتا۔ جرأت کرنا۔ کشادہ روی سے ملنا۔ لَا تَبْسُطْ ذِرَاعِيكَ إِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ۔

(نماز میں) اپنے دونوں بازوکتے کی طرح (زمین پر) نہ بچھا۔

إِنْبِعَاقٌ: کثرت کلام۔ بک بک کرنا۔ بہت بولنا۔ پھینکا۔ تیز و مسلسل بولنا۔ برس پڑنا۔ إِنَّ اللَّهَ

يَكْرَهُ الْإِنْبِعَاقَ فِي الْكَلَامِ۔ اللہ تعالیٰ کثرت کلام کو پسند نہیں کرتا۔

إِنبَهَارٌ: سانس چڑھنا۔ سانس پھولنا۔ ہانپ جانا۔ حیران ہونا۔ مغلوب ہونا۔

إِنبَاجٌ: چمکنا۔ آفت نازل ہونا۔

إِنبَاصٌ: منقبض ہونا۔ سکڑنا۔

إِنْبِضَعٌ: کٹ جانا۔ پھٹ جانا۔

إِنْبِطَحٌ: وہ بچھا، وہ کشادہ ہوا۔ وہ اوندھالیٹا۔

إِنْبَعَثَ: وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ إِذْ أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا۔ جب ان میں کا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا۔

إِنْبَعُجٌ: پھٹنا۔ کشادہ ہو جانا۔ بادل سے خوب پانی برسنا۔ خوب بولنا۔

إِنْبَعَثَ: پھونچکارہ جانا۔ شپٹانا۔

إِنْبَقَرٌ: پھٹنا۔

إِنْبَلَجٌ: روشن ہونا۔ إِنْبَلَجَ الصُّبْحُ۔ صبح روشن ہو گئی۔

إِنْبَلَقَ: وہ کھل گیا۔ إِنْبَلَقَ الْبَابُ۔ دروازہ کھل گیا۔

انت: تو۔ اسم اشارہ

أَنْبِحَانٌ: ایک مقام کا نام جہاں کبل بنے جاتے ہیں۔

أَنْبِحَاذٌ: ستم گتھا ہونا۔ اِنْتَحَذَ الْقَوْمُ فِي الْقِتَالِ۔ لوگ لڑائی میں ستم گتھا ہو گئے۔

أَبَاخَةٌ: ظاہر کرنا۔ مباح کرنا۔ جائز کرنا۔ حلال قرار دینا۔ اجازت دینا۔

أَبَاخٌ: آگ وغیرہ کو ٹھنڈا کرنا۔ فَنَنَى كُودًا دِينَا۔

أَبِطٌ: موٹا ہونا۔

أَبِلٌ: شاخ میں سے پانی نکلنا۔ بیمار کا صحت یاب ہونا۔

أَبِينٌ: واضح ترین۔

أَبْرُقٌ: چت کبرا ہونا۔ سفید و سیاہ رنگ کا کپڑا۔ أَبْرَقَتِ السَّمَاءُ۔ آسمان میں بجلی چمکنا۔

أَبْرُكٌ: بہادر۔ نڈر۔ شجاع۔

أَبْرَمٌ: مضبوط کرنا۔ مستحکم کرنا۔ ہانڈی بنانا۔ رسی کی دولٹیاں کر کے بٹنا۔ تنگ کرنا۔

أَبْرَهَةٌ: یمن کا ایک بادشاہ۔ جو بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا تھا۔ اللہ نے ابائیل کے ذریعے اس کو

لشکر سمیت ہلاک کر دیا۔

أَبْسَنٌ: خوش رنگ ہونا۔ خوش وضع ہونا۔

أَبْطَأَ: دیر کرنا۔ ست پڑنا۔

أَبْطَحُ: کشادہ جگہ جہاں سے سیلاب کا پانی گزرتا ہو۔

أَبْعَادِيَّةٌ: کھیت۔ فارم۔

أَبْعَاضٌ: مجھروں کا کاشا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ حصے کرنا۔

أَبْعَدُ: دور تر۔ ذلیل۔ خوار۔ تباہ حال۔ كَانَ إِذَا آزَادَ الْبَرَازَ أْبَعَدَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

تفائے حاجت کے لئے دور تشریف لے جاتے۔

أَبْعَرُ: آنسوؤں کی صفائی کرنا۔

أَبْقَى: ہمیشہ رہنے والا۔

أَبْقَى: باقی رکھنا۔ محفوظ رکھنا۔ رحم کرنا۔ شفقت کرنا۔

أَبْكَرُ: گونگا۔ بات نہ کرنا۔

أَبْلَقُ: سفید سیاہ دھبوں والا چت کبرا۔ فَرَسٌ أْبْلَقٌ: جس گھوڑے کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں۔

أَبْلَهُ: نادان۔ بے ضرر۔ جمع بُلَّةٌ۔

أَبْهَرُ: گردن کی رگ۔ پیٹھ۔ پرندے کا خاص پر۔ عمدہ زمین جہاں سیلاب نہ آتا ہو۔

أَبْهَلٌ: آزاد چھوڑنا۔ زمین میں بیج ڈال کر پانی چھوڑنا۔

أَبْهَمُ: گونگا۔

أَبْهَى: شان دار۔ انتہائی حسین۔

أَبْيَاضٌ: بہتر رنگ سفید ہونا۔

أَبْيَضٌ: سفید۔ چاندی۔ تلوار۔ صاف۔ بے داغ۔

أَبْيَضٌ: سفید ہونا۔ چہرے کا روشن ہونا۔ کھل پڑنا۔

أَتَأَقُّ: بھر دینا۔ أَتَأَقُّ الْحَيَاضَ بِمَوَاجِئِهِ۔ حوضوں کو اپنے چرخوں سے بھر دیا۔

أَتَّبَعَ: تابع بنانا۔ لائق کرنا۔ أَتَّبِعْ وَضُوءَكَ بَعْضُهُ بَعْضًا۔ تمام وضو ایک ساتھ ایک کے پیچھے

ایک کر۔ فَلَمَّا رَأَاهُ أَتَّبَعَهُ۔ جب اس کو دیکھا تو اس کے ساتھ ہولیا۔

أَتَّحَفَهُ: تھمہ دینا۔ قیمتی چیز دینا۔

أَخِيذُ: قیدی۔ گرفتار۔ جمع أَخَذَى۔ أَخِيذٌ نَبِيٌّ يَدِ الْعَدُوِّ۔ ریغمال۔ هُوَ أَسِيرٌ فَتَنَهُ۔ وہ آزمائش

میں گرفتار ہے۔

أَخَذَ: مسکور کن۔ جاذب نظر۔

أَدِيبٌ: علم ادب کا ماہر۔ اعلیٰ اخلاق کا حامل۔ جمع أدباء۔

أَدَبٌ: سلیقہ۔ شانگلی۔ اچھا طریقہ۔

أَدَوَاتٌ: آلات، اوزار۔ متعلقہ سامان۔ أَدَوَاتٌ مَنْزِلِيَّةٌ۔ گھریلو سامان۔ متعلقات خانہ۔

أَدَوَاتٌ مَطْبَعِيَّةٌ۔ باورچی خانے کا سامان۔ أَدَوَاتٌ مَكْتَبِيَّةٌ۔ لکھنے کا سامان۔ دفتری

ضروریات۔

أَذِنٌ: لمبے اور بڑے کانوں والا ہونا۔

أَذْنَا: لمبے اور بڑے کانوں والا ہونا۔

أَذْنٌ: بہت اعلان کرنا۔

أَبْيَقَرُ: ایسا آدمی جس میں نہ خیر ہو اور نہ شر۔

أَبْرُكٌ: اونٹ کو بٹھانا۔

أَبْرَى: وہ شخص جس کا سینہ نکلا ہو اور کمر دھنسی ہوئی ہو۔

أَبْضَعٌ: سرمایہ اور پونجی بنانا۔

أَبْطَنٌ: کپڑے کے نیچے استر لگانا۔ مقرب وہم راز بنانا۔

أَتْرَجَةٌ: بڑا لیموں۔ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَتْرَجَةِ۔ جو مومن قرآن

پڑھتا ہے اس کی مثال تریج کی مثال ہے۔ (جس کا ظاہر بھی خوش رنگ اور باطن بھی

مزیدار)

أَتْرُجٌ: بڑا لیموں۔

أَخُوَةٌ: بھائی بندی۔ دوستانہ۔ برادرانہ۔

أَخْتٌ: بہن۔ سہیلی۔ جمع أَخَوَاتٌ۔

أُخْدَةٌ: شکار کا گڑھا۔ کشتی کا داؤ۔ منتر۔

أُخْرَى: دوسری۔ آخرت۔ دوسری زندگی۔ جمع أُخْرٌ وَأُخْرِيَّاتٌ: جَاءَ فِي أُخْرِيَّاتِ النَّاسِ۔ وہ

سب سے آخر میں آیا۔ فِي أُخْرِيَّاتِ أَيَّامِهِ۔ اچھے آخری ایام میں۔

أُذُنٌ: کان۔ پیالی کی ڈنڈی۔ جگ کا دستہ۔ پینڈل۔ جمع أذَانٌ۔

باب الباء

البَارِقَةُ: ہتھیاروں کی چمک۔ بجلی والا بادل۔ چمک۔

أَبَالَةٌ: پیشاب کرانا۔

بِرَاصٍ: جنوں کے مکانات۔

بِرَايَةٌ: تیر سازی۔

بِرٌّ: نیکی۔ حسن سلوک۔ اطاعت۔ احسان۔ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ سے اچھا سلوک۔ الْغَنِيمَةُ

مِنْ كُلِّ بَرٍّ۔ ہر نیکی میں غنیمت۔

بِرْدُونٌ: ترکی گھوڑا۔ غیر عربی گھوڑا۔ مضبوط گھوڑا۔

بِرْزِيقٌ: گروہ۔ جماعت۔ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ النَّاسُ بِرَازِيقٍ۔ قیامت اس وقت

تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ الگ الگ گروہ نہ ہو جائیں۔

بِرْسِيمٌ: ایک قسم کی گھاس۔ جانوروں کا چارہ۔ برسیم۔

بِرْسَامٌ: سینے کی ایک بیماری۔ پھیپھڑوں کی ایک بیماری۔

بِرْسٌ: عراق کے ایک گاؤں کا نام۔

بِرْسَاكٌ: پرکار۔

بِرْكَةٌ: تالاب۔ حوض۔ تلیا۔ جمع بَرَكَ۔

بِرَاذَةٌ: پارچہ فروشی۔

بِرْزَالٌ: بوتل کی ڈاٹ کھولنے کا بیج۔ برما۔

بِرْزٌ: پستان۔

بِرْخٌ: ریت کا نشیبی حصہ۔

بِرْسَاطٌ: دری۔ بچھونا۔ فرش۔ وسیع میدان۔ جمع بُرْسَطٌ۔

بِرْسَالٌ: جری ہونا۔ بہادر ہونا۔ رَجُلٌ بِرْسَالٌ۔ بہادر مرد۔

بِرْشَارَةٌ: خوش خبری۔ نیک فال۔ خوش خبری دینے والے کا انعام۔

بِرْشَرٌ: کشادہ روئی۔ خوش ہونا۔

بضو: نرم و سفید پتھر۔ نرم مٹی جس میں کنکریاں ہوں۔

بِضْعَةٍ: گوشت کا ٹکڑا۔ فَاِطْمَةُ بِضْعَةٍ مَيْتَى۔ فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔

بِضْعٌ: چند۔ تین سے نو تک۔ صَلَوَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَوَةِ الْوَاحِدِ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً۔ جماعت کی نماز اکیلی نماز سے بیس اور کئی درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

بِطْيُخٍ: خر بوزہ۔ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطْيُخَ بِالرُّطْبِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خر بوزہ ترکھور کے ساتھ کھاتے تھے۔

بِطَافَةٌ: پرچہ۔ چھوٹا رتھ۔ کارڈ۔ اُكْتَبِيهَا فِي بِطَافِهِ۔ اس کو ایک پرچے پر لکھ لے۔

بِطَالَةٌ: بے کاری۔ بے روزگاری۔ چھٹی۔

بِطَانَةٌ: راز۔ ہمد۔ دلی دوست۔ خَاسِ آدَى۔ اِسْتَر۔ چھپی بات۔ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبِطَانَةِ فَاِنَّهَا بِسَبْتِ الْبِطَانَةِ (ہر چھپی (ہمدی) خصلت سے تیری پناہ۔ کیوں کہ یہ بری خصلت ہے۔

بِطَاءً: دیر کرنا۔ ست پڑنا۔

بِطْرِيوً: زبان دراز۔ انتہائی گم راہ۔

بِطْرِيْقٌ: رومی فوج کا کمانڈر۔ جنگ کا ناہر۔ سب سے بڑا پادری۔ یہود کا عالم۔ جَمْعُ بَطَارِيْقٍ وَبَطَارِقٌ۔

بِطْرٌ: رائیگاں۔ بے کار۔ ذَهَبَ دُمُهُ بِطْرًا۔ اس کا خون رائیگاں گیا۔

بِطْنَةٌ: شکم پری۔ بسیار خوری۔ اِنْيَاكُمُ وَالْبِطْنَةُ فَاِنَّهَا مُكْسِلَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ، مُفْسِدَةٌ لِلْجَسْمِ مُوَرِّثَةٌ لِلْسُقْمِ۔ (حضرت عمر کا قول ہے کہ) پیٹ بھر کر کھانے سے بچتے رہو، اس سے

نماز ادا کرنے میں سستی بدن میں خرابی اور بیماری پیدا ہوتی ہے۔

بِطْرِيوَةً: بے شرم۔ زبان دراز عورت۔

بِقْبِيخٍ: کشادہ جگہ جہاں درخت ہوں۔ اہل مدینہ کا قبرستان۔

بِقَالَةٍ: سبزی کی دوکان۔ پرچون کی دوکان۔

بِقَلَاوَةٍ: لٹھی۔

بِكٍ: تیرے ساتھ۔ تیری وجہ سے۔ تیری مدد سے۔ تیرے ظلیل۔ بِكَ اَمْرٌ لَا اَفْتَحُ لِاَحَدٍ

قَبْلَكَ۔ آپ ہی کی وجہ سے مجھے حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لئے نہ کھولوں۔

بِكَلٍّ: پانی یا ہر وہ چیز جو مطلق کو گیلا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا نام۔

بَلُوْرُ: ایک مشہور چمکتا ہوا سفید پتھر۔ نَعْمَ الْفِصُّ الْبَلُوْرُ۔ بلورا چھا گینے ہے۔

بِنَاءٌ: عمارت۔ جڑ۔ بنیاد۔ گھر۔ جمع أَبْنِيَةٌ۔

بِنْتُ: بیٹی۔ دختر۔ جمع بِنَاتٌ۔

بِنْهًا: مصر کا ایک گاؤں۔ آپ ﷺ نے اس کے شہد کے لئے برکت کی دعا کی۔

بِنَاحٍ: ایک قسم کی مچھلی۔

بِنْشَةً: یمامہ کے راستے میں ایک بستی۔

بِشْيَارِجٍ: کھانے سے پہلے شربت یا میوہ جو مہمان کے سامنے لایا جائے۔ فارسی لفظ پیش آورده

کا معرب۔

بِئَعَةٌ: یہودیوں کا عبادت خانہ۔ جمع بِيْعٌ۔

بَيْنٌ: کنارہ۔ حد۔

بَابٌ: دروازہ۔ وَأَجْدُ بِلَالًا فَاتِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ۔ اور میں نے بلال کو دروازے کے دونوں

پتوں کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا۔

بَابُجٌ: سیدھا راستہ۔ جمع أَبْوَابُجٌ۔

بَاخٌ: اس نے ظاہر کیا۔ وہ ظاہر ہوا۔ بَاخٌ بِالشَّيْءِ۔ اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا۔ يُعْرِضُ وَلَا

يَبُوحُ۔ وہ اشارہ کنایہ کرتے تھے صاف صاف نہیں کہتے تھے۔

بَاخَةٌ: بیچوں بیچ۔ میدان۔ بہت پانی، بھجوروں کے بہت سے درخت جمع بُوْحٌ۔ كَيْسٌ لِلنِّسَاءِ

مِنْ بَاخَةِ الطُّوْبِقِيِّ شَيْءٌ: راستے کے بیچوں بیچ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں۔ (بل کہ وہ راستے

کے دائیں یا بائیں چلیں)

بَاخٌ: سرد پڑنا۔ سست ہونا۔ گرمی کا ہلکا ہونا۔ غصہ ٹھنڈا پڑنا۔ ٹھک جانا۔

بَارِدَةٌ: خریداری میں نفع۔ محنت کے بغیر حاصل ہونے والا مال۔ الصُّومُ فِي الشِّتَاءِ الْغَيْمَةُ

الْبَارِدَةُ، موسم سرما کا روزہ بغیر محنت کا مال غنیمت ہے۔

بَارٌ: نیک۔ اطاعت گزار۔ سچا۔ اچھا سلوک کرنے والا۔ جمع بَرَرَةٌ۔ اجْعَلْ قَلْبِي بَارًا وَعَمَلِي

مَسَارًا۔ میرا دل نیک کر دے اور میرا عمل خوش کرنے والا کر دے۔

بَارِغَةٌ: دانت۔ طلوع ہونے والا ستارہ۔ جمع بَوَازِغٌ۔

بَارِزَةٌ: زخم جو جلد کو پھاڑ کر خون بہائے۔ بہ قدر ضرورت مال۔

بَاذَلٌ: وہ اونٹ جو آٹھ برس کا ہو کرنوں میں لگا ہو۔ تجربہ کار آدمی۔ جمع بَوَازِلٌ۔

بَاذٌ: ایک شکاری پرندہ۔ جمع أَبَوَازٌ وَبِزَوَانٌ۔

بَاسِقَاتٌ: بلند وبالا۔ (کھجور کے درخت) دراز۔ اچھی شہرت والا۔ واحد بَاسِقٌ۔ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ۔ اور بلند وبالا کھجور کے درختوں کو۔

بَاسَةٌ: بوسہ لینا۔

بَاسُورٌ: مسہ (بو اسیر کا) جمع بَوَاسِيرٌ۔

بَاصِرَةٌ: نگاہ۔ قوت باصرہ۔ آنکھ۔

بَاصِرٌ: غور سے دیکھنے والا۔ تیز نگاہ۔

بَاصٌ: بہت دور ہونا۔ فرار ہو کر چھپ جانا۔ کسی پر سبقت لے جانا۔

بَاصِعَةٌ: وہ زخم جو گوشت کو چیر دے (ہدی کو نقصان نہ پہنچائے) اَلْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبِيثَهَا وَتُبْضَعُ طَيْبَهَا۔ مدینہ بھٹی کی طرح ہے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور کھرے کو رکھ لیتا ہے۔

بَاطِلٌ: لغو۔ ناچیز۔ غلط۔ جادوگر۔ اُسْكُتٌ اِنْ عَمَرَ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلَ۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنار ہے تھے کہ حضرت عمر آگئے۔ آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ۔ عمر لغو باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ۔ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز بے فائدہ ہے۔

بَاطِنٌ: اللہ تعالیٰ کا اسم صفت۔ پوشیدہ اسرار کو جاننے والا۔

بَاعِثٌ: اللہ تعالیٰ کا اسم صفت۔ زندہ کر کے اٹھانے والا۔

بَاعِثٌ: بے وقوف۔

بَاعَلٌ: بیوی بنا لینا۔ شوہر بنا لینا۔ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا۔ بَاعَلَ الْقَوْمُ قَوْمًا آخِرِينَ ایک بزداری کا دوسری برادری میں شادی کرنا۔ تَبَاعَلَ الزَّوْجَانُ۔ میاں بیوی کا باہم دل لگی کرنا۔

بَاعَةٌ: گھر کا صحن جمع أَبْوَاعٌ۔

بَاعٌ: دو ہاتھ کے پھیلاؤ کا فاصلہ۔ جسم۔ طاقت۔

بَاعِصَةٌ: نفرت کا جواب نفرت سے دینا۔

بَاغِي: تلاش کرنے والا۔ طلب گار۔ جابر۔ عالم۔ باغی۔ قانون شکن۔ جمع بَغَاةٌ وَبُغْيَانٌ۔
 انْطَلِقُوا بُغْيَانًا۔ ڈھونڈتے ہوئے چلے جاؤ۔ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ
 أَقْصِرْ۔ اے نیکی کے ڈھونڈنے والے آ (تجھے اس کا ثواب ملے گا) اے برائی کے
 ڈھونڈنے والے باز آ۔ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ بَغَاةَ الْعِلْمِ۔ آگاہ ہو جاؤ۔ بے شک اللہ علم
 ڈھونڈنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

بَاقِرٌ: وسیع العلم۔

بَاقِلًا: ایک مشہور بھابی۔ لویا۔

بَاقِيَةٌ: کسی شے کا باقی حصہ۔

بَاقِي: اللہ تعالیٰ کا اسم صفت۔ قائم و دائم۔ پائیدار۔ بچا ہوا۔ فاضل و متروک۔

بَاقَةٌ: خوشہ۔ گچھا۔ سبزی کا مٹھا۔ الباقَةُ مِنَ الزُّهُورِ۔ گل دستہ جمع بَاقَاتٌ۔

بَاقُولٌ: بغیر دستے کا ڈوں گا۔ جمع بَوَاقِيلٌ۔

بَاجِرٌ: سورا۔ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت۔

بَاجُورَةٌ: فصل کا نیا پھل۔

بَالِغٌ: پورا۔ کامل۔ اَيْمَانٌ بِالْبَلِغَةِ۔ بڑی پختہ نسیمیں۔

بَالُوْعَةٌ: گھر میں وہ سوراخ جس میں پانی جذب ہو جائے یا باہر نکل جائے۔ نالی۔ جمع

بَوَالِيْعٍ۔ بَلَالِيْعٍ

بَالُوْلٌ: پانی۔

بَالَةٌ: تری۔ شبنم۔

بَالٌ: حال۔ حالت۔ حیثیت۔ اہمیت۔ دل۔ عقل۔ مَنْ نَامَ حَتَّىٰ اَصْبَحَ فَقَدْ بَالَ الشَّيْطٰنُ

فِيْ اُذُنِهٖ۔ جو شخص صبح تک سوتا رہا (نماز کے لئے نہیں اٹھا) تو شیطان نے اس کے کان میں

پیشاب کر دیا۔ لَا يَبُوْلُنَّ اَحَدًا كُمْ فِيْ مُسْتَحَبِّهٖ۔ تم میں سے کوئی اپنے نہانے کی جگہ

پیشاب نہ کرے۔ لَا تَبِلُ فَايْمًا۔ کھڑے کھڑے پیشاب نہ کر۔

بَانٌ: بنیاد رکھنے والا۔ تعمیر کرنے والا۔ جمع بُنَاةٌ۔

بَانِيْحَةٌ: مصیبت۔ آفت۔ ریت کا کشادہ میدان۔ جمع بَوَانِيْحٍ۔

بَانِيْحٌ: تھکا ماندہ۔ ٹھنڈا۔ سرد۔ بچھا ہوا۔

بَائِدٌ: غیر۔ لیکن۔ مگر پھر بھی۔ تاہم۔ اس کے باوجود۔

بَائِقَةٌ: قند۔ مصیبت۔ جمع بَوَائِقُ

بَائِقٌ: معمولی سامان۔

بَائِكَةٌ: کھجور کا بڑا درخت۔ جمع بَوَائِكُ۔

بَاءٌ: وہ پھر گیا۔ وہ لوٹا۔ اس نے رجوع کیا۔ قَدْ بَاءَتْ بِهٖ عَلٰی نَفْسِهَا۔ اس نے اپنی خطا کا

اقرار کر لیا۔

بَاءَةٌ: نکاح۔

بَاهِرٌ: دل فریب۔ لاجواب کرنے والا۔ خیرہ کرنے والا۔ ممتاز۔

بَاهَتْ: الزام تراشی کرنا۔ وَمَنْ بَاهَتْ فِي ذٰلِكَ۔ جس نے اس میں بہتان لگایا۔ مَنْ بَاهَتْ

مُؤْمِنًا اَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي طِينَةِ الْخَبَالِ۔ جس کسی نے مومن مرد یا

عورت پر بہتان لگایا قیامت کے دن اللہ اس کو پیپ اور خون کی کچھڑ میں قید کرے گا۔

بَاهِلٌ: مہالہ کرنا۔ لعنت کرنا۔

بَايَعٌ: بیچنے والا۔ خریدنے والا۔ اَلَا تَبَايَعُوْنِي عَلٰی الْاِسْلَامِ۔ کیا تم مجھ سے اسلام پر بیعت نہیں

کرتے۔

بَرَقٌ: نگاہ کا چکا چوند ہونا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے دیکھ نہ سکتا۔

بَرِيَّةٌ: مخلوق۔ جمع بَرَايَا، بَرَايَاتٌ۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۔ وہ لوگ سب سے بہتر مخلوق ہیں۔

بَرِيْدٌ: ایک پیمانہ جو ۲۲ میل کے برابر ہوتا ہے۔ (برید چار فرسخ کا اور فرسخ ۳ میل اور میل چار ہزار

ہاتھ کا ہوتا ہے)

بَرِيْدِيٌّ: ڈاک خانہ۔

بَرِيْدٌ جَوِّيٌّ: ہوائی ڈاک۔

بَرِيْدٌ عَادِيٌّ: عام ڈاک۔

بَرِيْصٌ: چمک۔ چمک دار۔

بَرِيْنٌ: مبارک۔ برکت والا۔ مکھن لگی ہوئی کھجور۔ جمع بَرِيْنٌ

بَرِيْمَةٌ: برآمد۔ سوراخ کرنے کا آلہ۔

بَرِيْعٌ: دورنگ کی مٹی ہوئی رسی۔ عورتوں کا پنکا۔ لشکر۔ بھیڑ بکریوں کا ملا جلار یوڑ۔

بَرَاذَةٌ: پختہ رائے والا۔ پختہ عقل والا۔ پاکیزہ اخلاق والا۔ شجاعت میں فوقیت رکھنا۔

بَرَّازٌ: میدان۔ پانخانہ۔ البَوْلُ مِثْلُ الْبَرَّازِ۔ پیشاب بھی پانخانے کی طرح ہے۔

بَرَاعَةٌ: غالب ہونا۔ فائق ہونا۔ فضیلت یا جمال میں کامل ہونا۔

بَرَامٌ: دھاگہ۔

بَرَّةٌ: نیک لوگ۔ فرماں بردار۔ اطاعت گزار۔ واحد بَرٌّ۔ المَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ

الْكَرَامِ الْبَرَّةِ۔ قیامت کے دن قرآن کا ماہر پیغام لانے والے عزت دار نیک فرشتوں

کے ساتھ ہوگا۔

بَرَزٌ: چھپنے کے بعد ظاہر ہونا۔

بَرَشٌ: چیت کبرا ہونا۔ کالے اور سرخ دھبوں والا ہونا۔ گھوڑے کے جسم پر سفید یا سیاہ دھبے۔

بَرَصٌ: کوڑھ۔ جسم پر سفید داغوں کا نمودار ہونا۔

بَرَضٌ: پانی کا کم ہونا۔ کم مقدار میں نکلنا۔ مَاءٌ قَلِيلٌ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبْرُضًا۔ تھوڑا سا پانی جس

کو لوگ چلو چلو لے رہے تھے۔

بَرَقٌ: بکری کا بچہ۔ بھیڑ کا بچہ۔ دہشت۔ حیرت۔ بَرَقَ الْفَجْرُ۔ صبح روشن ہوئی۔

بَرَكَ: جم گیا۔ بیٹھ گیا۔ ٹھہر گیا۔ گر گیا۔ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ۔ اللہ تجھ کو برکت دے۔

بَرَكَتٌ: زیادتی۔ افزوئی۔ نیک بختی حج بَرَكَاتٌ۔ بَرَكَتُ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ۔ کھانے

کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد وضو کرے یعنی ہاتھ دھوئے فَإِنَّ

الْبَرَكَتَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا۔ برکت کھانے کے وسط میں اترتی ہے۔ (اس لئے کھانا

درمیان سے نہیں کھانا چاہئے بل کہ کناروں سے کھانا چاہئے)

بَرَمًا: اکتا جانا۔ زچ ہونا۔ تنگ آجانا۔

بَرَهُوْتُ: ایک گہرا تاریک کنواں۔ شَرُّ بَرٍّ فِي الْأَرْضِ بَرَهُوْتُ۔ زمین میں بدترین کنواں

برہوت ہے۔

بَرَّهَةٌ: سفید چمکتی ہوئی چھری۔

بَرِّيٌّ: خاک۔ مٹی۔ مخلوق۔

بَرُوْكَ: وہ عورت جس کا لڑکا جوان ہو اور وہ نکاح کرے۔

بَرَّاقٌ: چمک دار۔ بھڑک دار۔

بِرَّانِي: گھر کے باہر۔ بیرونی۔

بِرَاءَةٌ: پنسل تراش۔ قلم تراش۔ چاقو۔

بِرَاءٌ: تیر ساز۔

بِرَايَةٌ: پنسل تراش، قلم تراش، چاقو۔

بِرْوَكٌ: اونٹ کا بیٹھنا۔ بادل کا خوب برسا۔

بِرْوَةٌ: کنواں۔

بِرٌّ: سچ بولنا۔ احسان کرنا۔ نیکی کرنا۔ مقبول ہونا۔ اطاعت کرنا۔

بِرْوَزْخٌ: آڑ۔ پردہ۔ البرْوَزْخُ القَبْرِ: برزخ قبر ہے۔

بِرْوَزْقٌ: ایک گھاس۔

بِرْوَزٌّ: خالی زمین۔ کشادہ زمین۔

بِرْشَمَةٌ: نمکلی باندھ کر دیکھنا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ غصے سے خاموش رہنا۔ منہ پھیر لینا۔ رنگ

برنگ کے نفلے لگانا۔

بِرْصَاءٌ: کوڑھی عورت۔

بِرْصٌ: ایک کیڑا جو کنویں میں پیدا ہوتا ہے۔ سانپ کی کھال کا سفید دھبوں والا ہونا۔

بِرْصٌ: کم پانی والا کنواں۔ حج بُرُوضٍ وِبرِاضٍ۔

بِرْطِيلٌ: لہار بڑا پتھر۔ رشوت۔

بِرْطِشَةٌ: دلال ہونا۔

بِرْطَمَةٌ: رات کا تاریک ہونا۔ غضبناک ہونا۔ غصے سے پھول جانا۔

بِرْطَمٌ: رات کا تاریک ہونا۔ غضبناک ہونا۔ غصے سے پھول جانا۔

بِرْطَلٌ: کلاہ۔ لمبی ٹوپی۔

بِرْقَةٌ: دہشت۔ حیرت۔ لِكُلِّ ذَاخِلٍ بِرِقَّةٍ۔ ہر (نئے) داخل ہونے والے کو دہشت ہوگی۔

بِرْقٌ: بجلی۔ بجلی کی چمک۔ آسمان یا بادل میں بجلی چمکنا۔ جھلملانا۔ چمکنا۔ اَلْبِرْقُ مَخَارِيقُ

الْمَلَائِكَةِ۔ بجلی فرشتوں کے کوڑے ہیں۔

بِرْكٌ: اونٹ کے سینے کی جلد جو زمین سے لگ جاتی ہے۔ کوشش کرنا۔

بِرْمٌ: مضبوط کرنا۔ گھومنا۔ بٹنا۔ بِرْمَ الامرِ بِرْمًا۔ کام کو مضبوط کیا۔

بَرْمٌ: بخیل۔ کجوس۔ پکھلا ہوا سیسہ۔ بے قراری۔

بَرْنِيَّةٌ: مٹی کا ایک برتن۔

بَرْنِيٌّ: ایک قسم کی کھجور۔ بہت عمدہ اور لذیذ کھجور۔

بَرْنَامَجٌ: فہرست۔ پروگرام۔ حساب کا مکمل چارٹ۔ بجٹ۔ جمع بَرْنَامِجٌ۔

بَرَوَا: کڑا ہانا۔ ناک میں کڑا ڈالنا۔ تراشا۔ پیدا کرنا۔

بَرْيُجٌ: احسان کا بدلہ احسان سے دینے والا۔ بھلائی کا بدلہ دینے والا۔

بَرْزَاعَةٌ: ظرافت۔ بچے کا بے تکلف باتیں کرنا۔ ہوشیار ہونا۔ چالاک ہونا۔ انتہائی حسین ہونا۔

بَرْزَاءٌ: باز۔ شکر۔ جمع بَرَوَاؤُ، بَرْزَاؤُ، بَيْرَانٌ۔

بَرْزُؤٌ: جھنڈا۔

بَرْزَوَانٌ: غلبہ کرنا۔ پکڑ دھکڑ کرنا۔ زبردستی کرنا۔ اچھلنا۔ کودنا۔

بَرْزَاعٌ: بے تکلف باتیں کرنے والا۔ بے جھجک باتیں کرنے والا۔

بَرْزٌ: کپڑا۔ گھر کا سامان۔ غالب ہونا۔ لوٹ کھسوٹ کرنا۔ قَدِيمٌ بَرْزٌ مِنَ الْيَمَنِ۔ یمن سے کچھ کپڑا

آیا۔ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْزًا۔ نبی کریم صلی اللہ کپڑا بچھا کرتے تھے۔

بَرْجٌ: فخر کرنا۔ برا بھینٹہ کرنا۔ ابھارنا۔ آراستہ کرنا۔

بَرْجٌ: سینے کا باہر نکل آنا اور پیٹھ کا اندر کی طرف دھنس جانا۔

بَرْزٌ: بیج ڈالنا۔ ناک سکننا۔ لکڑی سے مارنا۔ دیگ میں مسالا ڈالنا۔

بَرْجٌ: نشتر مارنا۔ خون رواں کرنا۔ نکالنا۔ بَرْزَعَتِ الشَّمْسُ۔ سورج نکلا۔ بَرْزَعُ القَمَرُ۔ چاند

نکلا۔

بَرْزُقٌ: تھوکنہ۔ روشن ہونا۔ آفتاب کا طلوع ہونا۔ بونا۔ آتَيْنَا أَهْلَ خَيْبَرَ حِينَ بَرَزَتِ الشَّمْسُ

ہم اہل خیبہ کے پاس اس وقت پہنچے جب سورج طلوع ہو گیا۔

بَرْزُلٌ: سختی۔ زور۔ سوراخ کرنا۔ شیشی کی ڈاٹ کھولنا۔ رائے میں پختہ ہونا۔ پھاڑنا۔

بَسِيْسَةٌ: ستویا آتا جو تیل یا گھی ملا کر بغیر پکائے کھایا جائے۔ سوکھی روٹی کو کوٹ کر پانی میں ملا کر

کھانا۔ السَّوِيْقُ الْمَبْسُوْسُ۔ ترکیا ہوا ستو۔

بَسِيْطٌ: بچھائی ہوئی۔ فراخ۔ خالص چیز۔ ملاوٹ کے بغیر۔ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيْطٌ۔ بے ہاتھوں

والا ایک شخص کھڑا ہوا۔ بَسِيْثُ الْكُفِّ۔ فراخ دست۔ سخی۔

بَسِيلٌ: بہادر۔ جمع بَسَائِلَاءٌ۔

بَسِيْلَةٌ: تھپٹ۔ تلخی۔

بَسَاطَةٌ: سادگی۔ صاف دلی۔ بے تکلفی۔

بَسَاطَةٌ: شیریں زبانی۔

بَسَالَةٌ: بہادری۔ جرأت۔ دلیری۔

بَسَنٌ: اچھا۔ خوش شکل۔

بَسُوْسٌ۔ چرواہا۔

بَسَاسَةٌ: مکہ معظمہ کا ایک نام۔ مِنْ اَسْمَاءِ مَكَّةَ الْبَاسَةِ۔ مکے کا ایک نام باسہ بھی ہے۔

بَسٌ: اونٹ کو آہستہ ہانکنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ جھڑکنا۔ ڈانٹنا۔ پرانا کر دینا۔ وَمَعِيَ بُرْدَةٌ قَدْ بَسَّ مِنْهَا مِيرے پاس ایک چادر ہے جو کچھ گل گئی ہے۔

بَسًا: ٹھہرنا۔ آرام کرنا۔ مانوس ہونا۔ بے تکلف ہونا۔ نرمی برتنا۔ لَوْ كَانَ ابُو طَالِبٍ حَيًّا لَرَأَى سُيُوفَنَا بَسَاتٍ بِالْمِيَابِلِ۔ اگر ابوطالب زندہ ہوتے تو (آج) دیکھ لیتے کہ ہماری تلواریں بڑے بڑے شریف لوگوں پر جا کر ٹھہریں۔ (یہ آپ نے جنگ بدر کے بعد فرمایا)

بَسْبَاسَةٌ: جوتری، ایک خوش بودار پھل۔

بَسْبَسٌ: چٹیل میدان۔ جنگل، جمع بَسَابِسٌ۔ فَبَيْنَا اَجْوَلٌ بَسْبَسَهَا۔ میں اس کے چٹیل میدان میں گھوم رہا تھا۔ تُوْرَهَاتُ الْبَسَابِسِ۔ فضول باتیں۔ بے بنیاد باتیں۔

بَسْبَسٌ: تیز چلنا۔ چغل خوری کرنا۔ لگائی بھائی کرنا۔

بَسْرٌ: جلدی کرنا۔ ناگ واری ظاہر کرنا۔ ترش رو ہونا۔ گدرد کھجور کو خشک کھجور کے ساتھ ملانا۔ لَا تَفْجُرُوْا وَلَا تَبْسُرُوْا۔ پکی اور کچی کھجور ملا کر مت بھگو۔ (اس سے جلد نشہ آجاتا ہے۔)

اَللّٰهُمَّ بِكَ اِبْتَسَرْتُ۔ اے اللہ میں تیری مدد سے سفر شروع کرتا ہوں۔ رَوْضَاتٌ بَاسِرَاتٌ۔ ہرے بھرے باغیچے۔

بَسَطٌ: پھیلانا۔ دراز کرنا۔ خوش کرنا۔ قبول کرنا۔ ظاہر کرنا۔

بَسَقٌ: تھوکانا۔

بَسَلٌ: سخت ہونا۔ غصے اور بہادری سے تیوری چڑھانا۔ روکا۔ ملامت کرنا۔ قید کرنا۔

بَسَمٌ: مسکرانا۔

بَشِيعٌ: بدمزہ۔ بذائقہ۔ بدخلق۔ ترش رو۔ چہرہ بگڑ جانا۔ لباس کا کھردرا ہونا۔
بَشِيشٌ: چہرہ۔

بَشِيعٌ: بدنما۔ بد شکل۔ بدمزہ۔ تنگ۔

بَشَاشَةٌ: خوشی۔ تازہ روئی۔

بَشَاشٌ: خوش و خرم۔ خندہ رو۔ ہنس مکھ۔

بَشَاعَةٌ: بدنمائی۔ خرابی۔ بگاڑ۔ فساد۔ بد صورتی۔ بدمزگی۔

بَشَامَةٌ: ایک خوش بودار درخت جس کی لکڑی کی مسواک بنائی جاتی ہے۔ جمع بَشَامٌ۔ مَا لَنَا طَعَامٌ

الَا وَرَقٌ الْبَشَامِ۔ ہمارے کھانے کے لئے بَشَام کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔

بَشْرَةٌ: (اوپر کی جانب سے) آدمی کی کھال۔ جمع أَبْشَارٌ۔

بَشْمٌ: اکتا جانا۔ بد بھسی ہونا۔

بَشَاشٌ: خوش و خرم۔ ہنس مکھ۔ خندہ رو۔

بَشٌ: خوشی۔ تازہ روئی۔

بَشْرٌ: خوش خبری دینا۔

بَشِقٌ: کسی کو لاشی سے مارنا۔ گھور کر دیکھنا۔ کوئی چیز لینا۔ نظر کو تیز کرنا۔ کپڑے کو آہستہ سے

پھاڑنا۔ بَشِيقُ الْمَسَافِرِ۔ مسافر رک گیا یا چھپرہ گیا۔

بَشْكٌ: جلدی کرنا۔ تیز چلنا۔ جھوٹ بولنا۔ کاٹنا۔ گرہ کھولنا۔ ملا دینا۔

بَشْمَلَةٌ: ایک پھل دار درخت جو مصر اور شام کے علاقوں میں ہوتا ہے۔

بَصِيرٌ: باخبر۔ سمجھ دار۔ خوب دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم صفت۔

بَصِيرَةٌ: دل کی بینائی۔ ذکاوت۔ فہم و فراست۔ علم۔ نور قلب۔ عبرت۔ جمع بَصَائِرٌ وَبِصَارٌ۔

بَصِيصٌ: چمک۔ دمک۔ روشنی۔ کرن۔ بَصِيصٌ مِنَ الْأَمَلِ۔ امید کی کرن۔

بَصِيْعٌ: ٹپکتا ہوا پسینہ۔

بَصَارَةٌ: آنکھ کی بینائی۔ بینائی والا ہونا۔ جانا۔

بَصْرٌ: بینائی۔ آنکھ۔ جمع أَبْصَارٌ۔

بَصِقٌ: تھوکرنا۔ فَلْيَبْصِقْ عَلَى يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ۔ بائیں طرف یا پاؤں تلے تھو کے۔

بَصْلَةٌ: پیاز۔ جمع بَصَلٌ۔

بَصَاصٌ: جاسوس۔ خبر رساں۔

بَصَّةٌ: چنگاری۔ شعلہ۔ جلتا ہوا کوئلہ۔ دکھتا ہوا انگارا۔

بَصٌّ: چمکنا۔ جھلملانا۔ گھور کر دیکھنا۔ پانی کارشنا۔

بَصْبَاصٌ: دم ہلانا۔ نکالنا۔ دعائیں دونوں شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا کر ہلانا۔

بَصْبَصَةٌ: سفیدی مائل نرم پتھر۔ کنکری دار عمدہ مٹی۔ جمع بَصَار۔

بَصِيضٌ: پانی کا آہستہ آہستہ بہنا۔ پانی کارشنا۔

بَصِيغَةٌ: ہر وہ چیز جس پر سامان لاداجائے۔ جمع بَصَانِعُ۔

بَصِضٌ: ملائم ہونا۔ بھرے ہوئے جسم کا ہونا۔

بَصٌّ: پانی کا آہستہ آہستہ بہنا۔ پانی کارشنا۔ جسم کا بھرا ہوا اور ملائم ہونا۔ وَالْعَيْنُ تَبْصُ بِشَيْءٍ

مِنْ مَاءٍ جَمَشَتْهُ سَ ذَرَاذِرًا سَا پَانِي رَس رَهَا تَهَا۔ قَدِيمَ عَمْرٍو عَلَي مَعَاوِيَةَ وَهُوَ اَبْصُ

النَّاسِ۔ عمرو بن عاص معاویہ کے پاس پہنچے تو وہ سب لوگوں سے خوش رنگ اور اچھے

چہرے والے تھے۔

بَضْعٌ: سیراب ہونا۔ کاٹنا۔ ظاہر کرنا۔ تجارت کرنا۔

بَطْرٌ: اترانے والا۔ مغرور۔ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ۔ تکبر حق بات کو ہٹ دھری سے نہ ماننا ہے۔

بَطْنٌ: مال دار۔ مغرور۔ پیٹ کا مریض۔ پیٹو۔ بہت کھانے والا جمع۔ بَطَانٌ۔

بَطِيءٌ: سست۔ دیر کرنے والا۔

بَطِينٌ: بڑے پیٹ والا۔ توند والا۔

بَطْحٌ: اوندھا لٹانا۔ بچھانا۔ پھیلانا۔ ہم وار کرنا۔ أَوَّلُ مَنْ بَطَحَ الْمَسْجِدَ وَقَالَ اَبْطَحْهُ مِنْ

الْوَادِي الْمُبَارَكِ۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے مسجد نبوی میں کنکریاں بچھائیں۔ اور

کہا کہ میں برکت والی وادی کی کنکریاں اس میں بچھاتا ہوں۔

بَطْرٌ: اترانا۔ اکڑنا۔ آپے سے باہر ہونا۔

بَطْلٌ: بہادر۔ سورما۔ شہسوار۔ ممتاز کھلاڑی۔

بَطْنَا: پیٹ کا مریض ہونا۔ اترانا۔ دولت بڑھ جانا۔

بَطْوَلَةٌ: بہادری۔ شہسواری۔

بَطَطٌ: بلخ۔ مذکر مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

بَطٌّ: پھوڑے وغیرہ میں شگاف دینا۔ پھاڑنا۔ چیرنا۔

بَطْحَاءٌ: کشادہ وادی۔ جمع بَطَاحٍ۔

بَطْحَةٌ: قد و قامت۔ اوندھا لیٹے والے کے سر سے پیر تک کا فاصلہ۔ جمع بَطَاحٍ۔

بَطْحٌ: چائنا۔ لیپنا۔

بَطْرُكٌ: پادریوں کا سردار۔ یہودیوں کا عالم۔ جمع بَطَارِكٌ و بَطَارِكَةٌ۔

بَطْرٌ: چیرنا۔ پھاڑنا۔

بَطْشٌ: تیزی سے حملہ کرنا۔ زور سے تھامنا۔ مضبوطی سے پکڑنا۔ تشدد کرنا۔ ماہر ہونا۔ متبحر ہونا۔

بَطْنٌ: پوشیدہ ہونا۔ اندر ہونا۔ کسی کا ہم راز بننا۔ بَطْنُ الشَّاةِ۔ کبھی دل وغیرہ۔ بَطْنَتْ بَكَ

الْحُمَى۔ تیرے اندر بخار سا گیا۔

بَطْنٌ: قبیلے کی شاخ جو فِخْدُ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جمع أَبْنُنٌ و بَطُونٌ۔

بَطْرٌ: غیر مخمخون۔ اوپر کے ہونٹ کا درمیانی حصہ، ابھرا ہوا ہونا۔ مَا تَقُولُ أَيُّهَا الْعَبْدُ الْبَطْرُ۔

(حضرت علی نے شریح سے کہا) اے اونچے ہونٹ والے غلام تو (اس مسئلے میں) کیا

کہتا ہے۔

بَطٌّ: ستار بجانے کے لئے تاروں کو بلانا۔

بَعِيْتُ: بھیجا ہوا۔ اٹھایا ہوا۔

بَعِيْدٌ: دور۔ فاصلہ۔ جمع بَعْدَاءٌ۔ مَكَّتْ غَيْرَ بَعِيْدٍ۔ تھوڑا قیام کیا۔

بَعِيْرٌ: چار برس یا اس سے زیادہ کا اونٹ۔ جمع أَبَاعِرٌ۔ اِسْتَفْعَرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلى الله عليه وسلم)

لَيْلَةَ الْبَعِيْرِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً۔ (جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں) رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے جس رات کو میرا اونٹ خرید میرے لئے پچیس مرتبہ بخشش کی دعا فرمائی۔

اس رات کو لیلۃ البعیر کہتے ہیں۔

بَعَايَعَةٌ: محتاج لوگ۔

بَعَاغٌ: بادل میں پانی کی بڑی مقدار۔ سامان۔ سب کا سب۔ اَلْقَتِ السَّحَابُ بَعَاغَ مَا

اِسْتَقَلَّتْ بِهِ مِنَ الْحَمْلِ۔ ابر نے پانی کا جتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا وہ سب کا سب ڈال دیا۔

اَخَذَهَا فَبَعَاغَهَا فِي الْبَطْحَاءِ۔ شراب لے کر اس کو پتھر لے میدان میں بہا دیا۔

بَعَالٌ: ایک زمین۔

بَعَلٌ: شادی شدہ ہونا۔

بَعُوْضَةٌ: مچھر۔

بَعُوْضٌ: مچھر۔ واحد بَعُوْضَةٌ۔

بَعَجٌ: پیٹ کو بالکل پھاڑ دینا۔ بارش کا زمین کو پھاڑ دینا۔

بَعْرٌ: زیادہ میٹکنی کرنا۔

بِعَضٌ: حصے کرنا۔ ٹکڑے کرنا۔

بَعَقٌ: بالکل پھاڑ دینا۔ بَعَقٌ کا مبالغہ۔

بِعٌ: بے انداز بہانا۔ ابر کا متواتر برسنا۔ خوب برسنا۔

بِعٌ: بادل کا خوب مینہ برسانا۔

بَعِيعَةٌ: جلدی جلدی باتیں کرنا۔ مقابلے سے بھاگنا۔

بَعْرَةٌ: دیکھنا۔ پھیلا نا۔ تلاش کرنا۔ کھودنا۔ الٹ پلٹ کرنا۔ باہر لانا۔

بَعْتُ: اٹھانا۔ بھیجنا۔ جگانا۔ لشکر۔ گروہ۔ جمع بَعُوْتُ۔ يَوْمَ الْبَعْثِ۔ قیامت کا دن۔ وَالَّذِي

بَعَثْنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا۔ قسم اس کی جس نے مجھے سچائی بنا کر بھیجا۔ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔

میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

بَعَجٌ: چیرنا۔ پھاڑنا۔ کھولنا۔ بَعَجَ الْأَرْضَ وَنَجَعَلَهَا۔ (حضرت عمر نے) زمین پھاڑ ڈالی اور چیر

دی۔ یعنی ان کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئیں۔

بَعُدٌ: پچھلا۔ بعد والا۔ قَبْلُ کی ضد ہے جمع أَبْعَادُ۔ وَكَانَ صَلَوَتُهُ بَعْدَ تَخْفِيفِهَا صُحٌّ كِي مَنَازِكَةِ

بعد آپ کی دوسری نمازیں ہلکی ہوتی تھیں۔

بَعْرَةٌ: میٹکنی۔ غصہ۔ جمع بَعْرَاتٌ۔

بَعْرٌ: میٹکنی

بِعَضًا: غیر مرتب حرکت کرنا۔ گڑبڑانا۔

بِعَضًا: مچھر کا کاٹنا۔ ٹکڑے کرنا۔ حصے کرنا۔ أَصَابَنِي بَعْضُ الشَّيْءِ۔ مجھے کچھ ہو گیا۔

بَعَقٌ: مارنا۔ خون بہانا۔ کھولنا۔ سخت آواز کرنا۔ کھودنا۔

بَعْلَبُكُ: لبنان کا ایک شہر۔

بَعْلَةٌ: بیوی۔

بَعْلٌ: بلند زمین جو بارش ہی سے سیراب ہو سکے۔ شوہر۔ بیوی۔ کھیتی جسے سیرابی کی ضرورت نہ ہو (جرؤں سے تری حاصل کرے) اَنْ تَلِدَ الْاِمَّةُ بَعْلَهَا۔ لوٹڑی اپنے مالک کو جنے۔ یعنی لوٹڑیاں بہت ہوں، ان کے پیٹ سے مالک کی اولاد ہو۔

بَعْرَةٌ: بارش۔ پانی کی طاقت۔

بَغِيَّةٌ: مقصد۔ مطلب۔ خواہش۔

بَغِيٌّ: بدکار عورت۔ پیشہ ورزانیہ۔ جمع بَغَاءٌ۔ اِمْرَةٌ بَغِيٌّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فِي كَلْبٍ۔ ایک بدکار عورت کتے کے سبب جنت میں گئی (رحم کر کے اس کو پانی پلایا تھا)

بَغِيْتُ: خراب قسم کا گیہوں۔

بَغِيْرٌ: پیاس کا مریض۔

بَغِيْضٌ: قابل نفرت۔ بڑا بغض رکھنے والا۔

بَغْتٌ: سیاہ و سفید دھبے والا ہونا۔ جمع بُغْتٌ۔

بَغْرٌ: ایک بیماری جس میں پیاس نہیں بجھتی۔

بَغْرًا: زمین کا بارش سے سیراب ہونا۔

بَغَالٌ: نچروں کو چرانے والا۔

بَغْبَاغٌ: گرج کی آواز۔

بَغْتَةٌ: ناگاہ۔ اچانک۔ یکا یک۔ بے خبری میں۔ بلا توقع۔

بَغْتَاءٌ: طرح طرح کے لوگوں کا گروہ۔ مخلوط قسم کے لوگ۔

بَغْتَرَةٌ: تردد۔ پریشانی۔ حیران کرنا۔

بَغْتَرٌ: احمق۔ ست۔ میلا کچھلا۔

بَغْدَاذٌ: دریائے دجلہ پر واقع ایک شہر۔ عراق کا دارالحکومت۔

بَغْسَةٌ: ہلکی بارش۔

بَغْسٌ: ہلکی بارش ہونا۔ فَاصَابَنَا بَغْسٌ۔ ہم پر تھوڑا سا مینہ برسنا۔

بَغْضَاءٌ: دشمنی۔ انتہائی نفرت۔ سخت بغض۔

بَعْلَةٌ: بخر۔

بَعْلٌ: نخر۔ جمع أَبْعَالٌ وَبِعَالٌ۔

بَعِيٌّ: نافرمانی۔ سرکشی۔ شرارت۔ زیادتی کرنا۔ ظلم کرنا۔ زنا کرنا۔ سوچنا۔ فساد برپا کرنا۔ بغاوت کرنا۔ يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ۔ وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔

بَعْغَةٌ: ناگاہ۔ اچانک۔ یکا یک۔ جمع بَعْغَاتٌ۔

بَقَاقٌ: گھر کا خراب سامان۔

بَقَاوَةٌ: انتظار کرنا۔ دیکھنا

بَقَاءٌ: وجود۔ بقا۔

بَقَاءٌ: زندگی۔ باقی رہنا۔ دیر پا ہونا۔

بَقَطٌ: جماعت۔ گروہ۔ ایک ٹکڑا۔ وہ پھل جو توڑتے ہوئے گر جائے۔ گھر کا معمولی سامان۔

بَقَعٌ: کھال کا دھبے والا ہونا۔

بَقَارٌ: گائے بیل چرانے والا۔ کھودنے والا۔

بَقَّاقٌ: جھکی۔ باتونی۔

بَقَّالٌ: سبزی فروش۔

بَقْعَةٌ: دھبے ڈالنا۔ دھبے دار بنانا۔ بارش کا کہیں کہیں ہونا۔

بَقْلٌ: درخت کا کوئلیں نکالنا۔ چوپاؤں کو سبزی کھلانا۔

بَقْقَةٌ: کھٹل۔ جمع بَقَقٌ۔

بَقٌّ: کشادہ کرنا۔ پراگندہ کرنا۔ چیرنا۔ پھاڑنا۔ بک بک کرنا۔ بکواس کرنا۔ عورت کا کثیر الاولاد

ہونا آسمان کا زور سے پانی برسانا۔ تقسیم کرنا۔ بات کو زور سے کہنا۔ بہت کھٹل والا ہونا۔

رَجُلٌ لَقِيَ بَقًّا۔ بے ہودہ گو۔ بکواس کرنے والا۔ مَالِيٌّ أَرَاكَ كَقَفًا بَقًّا كَيْفَ بَكَ إِذَا

أَخْرَجُوكَ (آپ ﷺ نے حضرت ابو ذرؓ سے فرمایا) کیا بات ہے کہ میں تجھے بڑا باتونی

پاتا ہوں۔ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ تجھے مدینے سے نکال باہر کریں گے۔

(لوگ ان کی حق گوئی سے ناراض ہو گئے تو حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں ان کو

مدینے سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ وہ مقام ربذہ میں جا کر رہے اور وہیں وفات

پائی۔)

بَقْبُقٌ: ہانڈھی میں جوش آنے کی آواز۔

بَقْرَةٌ: گائے۔ بیل۔ جمع بَقَرٌ۔

بَقْرٌ: پیٹ پھاڑنا۔ منتشر کرنا۔ کشادہ کرنا۔ حالات دریافت کرنا۔ واضح کرنا۔ خوب غور کرنا۔ فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ بَيُوتَنَا۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھروں کو کشادہ کر رہے ہیں۔ اِنَّ دَنَا مِنِّيْ اَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ بَقْرَتْ بَطْنَهُ۔ اگر کوئی مشرک میرے نزدیک آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ (ام سلیم نے آپ ﷺ سے کہا تھا)۔

بَقَطٌ: سامان باندھنا۔ اسباب اکٹھا کرنا۔ جدا کرنا۔

بَقْلًا وَا: بادام کے ایک یا بسکٹ

بَقْلَةٌ: بڑی کشتی۔ ساگ کا کھیت۔ سرسبز زمین۔

بَقْلٌ: سبزی۔ ترکاری جو بچ سے اُگے۔ ظاہر ہونا۔ چراگاہ کا سرسبز ہونا۔ لڑکے کے چہرے پر بال نکل آنا۔ اَبْقَلَ الْمَكَانُ۔ مکان سبزہ زار ہو گیا۔ بَقَلَ الصَّبِيُّ۔ بچے کے منہ پر جوانی کی سبزی آگئی۔

بَقْوَةٌ: انتظار کرنا۔ دیکھنا

بَقِيٌّ: انتظار کرنا۔ دیکھنا۔ فَبَقِيْتُ كَيْفَ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ میں دیکھتا رہا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اِثْنَيْ عَشَرَ (جنگ احد میں) آپ کے ساتھ ۱۲ آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔

بَكْرٌ: صبح سویرے۔ جلدی کرنا۔

بَكِيْرَةٌ: سب سے پہلا پھل۔

بَكِيْلَةٌ: آنا اور گھی ملا ہوا ستوا اور گھی اور کھجور ملا ہوا۔ مال غنیمت۔

بَكِيْمٌ: گونگا۔ کم سم۔

بَكَاْرَةٌ: کنوارا پن۔ دو شیرگی۔

بَكَاَلَةٌ: آنا اور گھی ملا ہوا کھانا۔ ستوا اور گھی اور کھجور ملا ہوا کھانا۔ مال غنیمت۔

بَكَاٌ: کم گو ہونا۔ جانور کا کم دودھ والا ہونا۔ نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ فِينَا بَكَاٌ۔ ہم انبیا لوگ بلا ضرورت بات نہیں کرتے۔ بَكَاتِ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کا دودھ کم ہو گیا۔ شَاةٌ بَكِيَّةٌ۔ کم دودھ والی بکری۔

بَكْرَةٌ: جماعت۔ گروہ۔

بُکْمَرٌ: گونگا ہونا۔ کم سم ہونا۔ جمع بُکْمَرٌ۔

بُکْمَرٌ: گونگا بن جانا۔ بات نہ کرنا۔

بُكْمَاءٌ: بہت رونے والا۔ رَجُلٌ بُكْمَاءٌ۔ بہت رونے والا آدمی۔

بُكَلَّتْ: تو نے گڈمڈ کیا۔ تو نے خلط ملط کیا۔ تو نے اٹی سیدھی بات کی۔

بُكَّةٌ: ککے کا ایک قدیم نام۔

بُكٌّ: محتاج ہونا۔ بدن کا سخت ہونا۔ بہادری سے پھاڑنا۔ جدا کرنا۔ کچل ڈالنا۔ رحم کرنا۔ مغلوب

کرنا۔ کھڑے کھڑے کرنا۔

بُكْرَةٌ: وہ چرنی جس سے وزنی چیز کھینچی جائے۔

بُكْرٌ: جوان نراونٹ۔

بُكْعٌ: بری طرح پیش آنا۔ قائل کرنا۔ کاٹنا۔ غالب آنا۔ پے در پے مارنا۔ فَبُكْعَةٍ بِالسَّيْفِ۔ اس

پرتلواری سے پے در پے وار کئے۔

بُكْلٌ: جنگ کا مال غنیمت۔

بُكْلٌ: مشتہر کرنا۔ بات کو غلط طریقے پر بیان کرنا۔ آمیزش کرنا۔

بُكْمًا: مارنا۔ ڈانٹنا۔ دلیل سے مغلوب کرنا۔

بَلَسٌ: ناامید۔

بَلَيْتٌ: فصیح الکلام۔ عقل ہند۔ مختصر بات کرنے والا۔

بَلِيدٌ: بے وقوف۔ کند ذہن۔ کم عقل۔ ست۔

بَلِيغَةٌ: بلیغ۔ فصیح۔ مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ۔ بڑی عمدہ اور فصیح نصیحت۔

بَلِيغَةٌ: گیبوں یا کئی جسے ابال کر کھایا جائے۔

بَلَاطٌ: مدینے میں ایک جگہ کا نام۔ عَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ۔ میں نے اونٹ کو مقام

بلاط میں باندھ دیا۔ كَانَ الْبَلَاطُ حَيْثُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ۔ بلاط وہ مقام تھا جہاں

اب جنازوں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ (آپ کے زمانے میں اس کو بلاء کہتے تھے اور وہاں

بازار لگتے تھے)

بَلَاطٌ: پختہ زمین۔ پتھر بچھی ہوئی زمین۔

بَلَاغَةٌ: بلاغت۔ فصاحت۔ شیریں زبانی۔ حسن بیان۔ زور بیان۔

بَلَاغٌ: پہنچانا۔ ناپسندیدگی۔ خبر۔ اطلاع۔ مقصود تک پہنچنے کا سامان۔ زادراہ۔ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتُ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَىٰ حِينٍ۔ جو کچھ تو ہم پر نازل کرے اس کو ہمارے لئے قوت اور مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دے ایک مدت دراز تک۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ تو ہی مددگار ہے اور تو ہی مقصود تک پہنچانے والا ہے۔

بَلَاؤٌ: ناخوش جوڑنا۔ خیر۔ بھلائی۔

بَلَاءٌ: آزمائش۔ مصیبت۔ رنج و غم۔

بَلَّحٌ: خوش ہونا۔ ظاہر ہونا۔ بَلَّحَ الْحَقُّ۔ حق ظاہر ہو گیا۔

بَلَّحٌ: کچی کھجور (جب تک ہری ہو)

بَلْدِيَّةٌ: میونسپلٹی۔

بَلْدِيٌّ: ملکی۔ ہم وطن۔ شہری۔

بَلَدٌ: شہر۔ جمع بِلَادٌ۔ أَحَبُّ الْبِلَادِ الْمَسَاجِدُ۔ (اللہ کے نزدیک) سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔

بَلْسَانٌ: ایک قسم کا پودا جس کے پھول سفید اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ چڑیا کی مانند ایک پرندہ۔ بَعَثَ اللَّهُ الطَّيْرَ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْفَيْلِ كَالْبَلْسَانِ۔ اللہ نے ہاتھی والوں پر ایسے پرندے بھیجے جو چڑیا کی مانند تھے۔

بَلَسٌ: انجیر کی طرح کا ایک پھل جو یمن میں کثرت سے ہوتا ہے۔ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرِقَّ قَلْبَهُ فَلْيَدِمُ أَكْلَ الْبَلْسِ۔ جو شخص چاہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے تو وہ ہمیشہ انجیر کھایا کرے۔

بَلَعٌ: نگلنا۔

بَلَقٌ: حیران ہونا۔ سفید و سیاہ دھبوں والا ہونا۔

بَلَلٌ: تری۔ گیلا پن۔ تھوڑی چیز۔ تازگی۔ رَاءٌ يَثُّ بَلَلًا مِّنْ عَيْشٍ۔ میں نے خوب ارزانی دیکھی۔

بَلَمٌ: سوچے ہوئے ہونٹ والا۔ موٹے ہونٹوں والا، کھجور کا پتا۔

بَلَّةٌ: نادانی۔ بھولا پن۔ صاف دلی۔ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ بَلَّةٌ مَا أَطَّلَعْتُمْ عَلَيْهِ۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کا خیال کسی انسان کے دل میں نہیں گزرا۔ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبَلَّةُ۔ جنت کے اکثر لوگ سیدھے سادھے ہوں گے۔

بَلَدٌ: وہ کنڈ زمین ہوا۔ وہ بے ڈول ہوا۔

بَلْوَعَةٌ: گمر میں وہ سوراخ جس میں پانی جذب ہو جائے یا باہر نکل جائے۔ نالی۔ جمع ہوا بلیع۔

بَلَايِع

بَلْوَعٌ: برداشت کرنا۔

بَلْوَعٌ: بہت نکلنے والا۔

بَلَاعَةٌ: نالی۔ موری۔ گمر کا گند پانی نکلنے کی جگہ۔

بَلَانٌ: حمام۔ غسل خانہ۔ حمام میں غسل دینے والا۔ جمع بَلَانَاتٌ: سَفَفَحُونَ بِلَادًا فِيهَا

بَلَانَاتٌ۔ بہت جلد تم ایسے ملکوں کو فتح کرو گے جہاں حمام ہوں گے۔

بَلْعٌ: تھک جانا۔ منقطع ہو جانا۔

بَلَدٌ: کام میں سست ہونا۔ کوتاہی کرنا۔ بادل کا نہ برسا۔

بَلْعٌ: ہونٹ سو جانا۔ خاموش ہو جانا۔

بَلْوَزٌ: ایک مشہور چمکتا سفید پتھر۔

بَلَّةٌ: تر کرنا۔ ناطہ جوڑنا۔ رشتے داری قائم کرنا۔ فَمَسَّحَ بِبَلَّةٍ مَا بَقِيَ رَأْسِهِ وَرَجَلَيْهِ۔ اس نے

سر اور پاؤں پر اس تری سے مسح کر لیا جو ہاتھوں میں باقی رہ گئی تھی۔

بَلْوُطٌ: ایک مشہور درخت۔

بَلٌّ: تر کرنا۔ ناطہ جوڑنا۔ بَلُّوْا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ۔ ناطہ جوڑو اگرچہ سلام ہی سے جوڑو۔

بَلٌّ مِنْ مَرَضِهِ۔ وہ بیماری سے اچھا ہو گیا۔

بَلْبَالٌ: رنج۔ غم۔ اضطراب۔ تشویش۔ جمع بَلَابِلٌ۔

بَلْبَلٌ: رنج۔ غم۔ بَلْبَلَةُ الصَّنْبَرِ۔ سینے کا دوسر۔

بَلْتَعٌ: ماہر۔ ہر چیز سے واقف۔ مکار۔

بَلْتُ: کائنا۔ کٹ جانا۔ کلام سے رک جانا۔

بَلَدٌ: جدہ کے راستے میں مکے کے قریب ایک مقام یا ایک پہاڑ۔ لَقِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَمْرُو بْنُ نَفِيلٍ بِأَسْفَلِ بَلَدٍ وَكَانَ يَتَعَبَّدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى دِينِ

إِبْرَاهِيمَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروین نفیل سے مقام بلدح کے زیریں حصے میں ملے۔ وہ

زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابراہیم کے دین پر چلتے تھے۔

بَلَطًا: کھاڑی۔

بَلَطًا: پتھر کا فرش بنانا۔ ٹائل لگانا۔ ہم وار کرنا۔ پلا سٹر کرنا۔

بَلَعُمُ: بہت کھانے والا۔ بسیار خور۔

بَلَعٌ: بالغ ہونا۔ پھل پکنے کا وقت ہو جانا۔ معاملے کا پختہ ہونا۔ اَللّٰهُمَّ سَمِعَ لَا يَلْعُ اے اللہ یہ بات سنی جائے مگر پوری نہ ہو۔

بَلَقَاءُ: شام میں ایک شہر۔

بَلَقَعَةٌ: ویرانہ۔ بخر علاقہ۔ جمع بَلَقَعٌ۔ شَرُّ النِّسَاءِ الْبَلَقَعَةُ۔ جس عورت میں کوئی بھلائی نہ ہو وہ سب عورتوں سے بری ہے۔

بَلَقَعٌ: ویرانہ۔ بخر علاقہ۔ جمع بَلَقَعٌ۔ الْيَمِينُ الْكَادِبَةُ تَدْعُ الدِّيَارَ بَلَقَعٌ۔ جھوٹی قسم کمروں کو ویران بنا دیتی ہے، مَا صَبَحَتِ الْاَرْضُ مِثِّي بَلَقَعٌ۔ زمین میری وجہ سے ویران ہو گئی۔

بَلَوْ: آزمانا۔ قسم دینا۔ پرانا کرنا۔ ظاہر کرنا۔ مصیبت۔ بَشْرَةٌ عَلٰی بُلُوٰى تَصِيْبَةٌ۔ (عثمان کو جنت کی بشارت دے دے گو ان پر ایک مصیبت آئے گی۔

بَلَّةٌ: چھوڑنا۔ اسم فعل ہے۔

بَعْرٌ: ستار کے تاروں میں سے ایک موٹا تار۔

بَنَانٌ: انگلیوں کے سرے۔ پور۔ مَا عَرَفْتُهُ اِلَّا بِنَانِهِ۔ (جاہر کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں) میں اپنے والد (عبداللہ) کو ان کی انگلیوں کے سرے دیکھ کر پہچانا۔

بَنَسٌ: شر سے بھاگنا۔

بَنَدٌ: بڑا جھنڈا جس کے نیچے دس ہزار آدمی ہو۔ اَنْ تَغْزُوا الرُّومَ فَتَمِصُّوْا بِعَمَانِيْنَ بَنَدًا۔ تم اہل روم (نصاری) سے جہاد کرو گے۔ وہ ۸۰ جھنڈے لے کر آئیں گے۔ (آٹھ لاکھ فوج)

بَوَاؤُ: غیر مزروعہ زمین۔ ہلاکت۔ جاہلی۔ عذاب۔ وَاَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَاؤِ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا جو جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔

بَوَاءٌ: برابر۔ یک ساں۔ اَلْبَجْرَاحَاتُ بَوَاءٌ۔ زخموں میں برابری کی جائے گی۔ وَهُوَ بَيْتِيَّةٌ سَوِيَّةٌ۔ وہ برے حال میں ہے۔

بَوَابٌ: دربان۔